

10th Class Home Economics Chapter 7 Art in Everyday Life KPK Boards Online MCQ's

Sr	Questions	Answers Choice
1	صرف سے مراد ہے	A. بناءً والا B. خرج کرنے والا C. سمجھنے والا D. کام کرنے والا
2	گھریلو انصرام میں منصوبہ بندی اس پر عمل درآمد اور اس کے نتائج کا جائزہ لینا شامل ہے	A. لخلائقی حکمت عملی B. تنشیٰ حکمت عملی C. سیلسوی حکمت عملی D. کچھ بھی نہیں
3	جسم میں کمی سے غذا کی تحلیل نہیں ہوتی ہے اور فاصل مادوں کا اخراج صحیح طور پر نہیں ہوتا ہے	A. وثامن کی B. پروٹئین کی C. پلی کی D. معدنی نمکیات کی
4	بیٹھیوں اور دالتون کی مناسب نشوونما اور درست حالت میں رکھنے کے لئے ضروری ہے	A. جکٹانی B. ککشیم C. آئرن D. انیوکن
5	انسان کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتا ہے	A. وثامن ڈی B. وثامن بی C. وثامن اے D. وثامن سی
6	انیعما کی بیماری کا باعث ہے	A. پریٹین کی کسی B. معدنی نمکیات کی کسی C. پانی کی کسی D. انرن کی کسی
7	چکلتی میں پکے ہوئے کھاتوں کا ذاتہ ہوتا ہے	A. برا B. اجھا C. نمکن D. میثیا
8	کاربوبلٹیٹریشن جسم کو مہپا کرتے ہیں	A. حرارت و طاقت B. کام کاج C. پروٹئن
9	انسانی جسم کرتا رہتا ہے	A. فارغ B. مسلسل کام C. حرکت D. کچھ بھی نہیں
10	جسم کی مناسب نشوونما اور کاکر دگی کے لیے ضروری ہے	A. متوازن غذا B. غیرمتوازن غذا C. پانی D. بو
11	اگر صوفے پر رکھے ہوئے کھن پردون کے رنگ کے ہوں تو ان میں پلا جاتا ہے	A. توازن B. تنسلس C. تسلسل D. فوکیت
12	بڑے فریم میں چھوٹی تصویر لگا دی جائے تو یہ آرٹ کے کن اصول کے منافی ہے	A. تسلسل B. بہ اینگی C. فوکیت D. تنسلس
13	ٹیز اف کی اقسام ہیں	A. دو B. تین C. چار D. پانچ
14	ٹیز اف کے عناصر ہیں:	A. دو B. تین C. چار D. چھ
15	آرٹ کا اصول جو صرف گھریلو آرٹش لباس اور بیگر سجاوٹی اشیاء میں استعمال ہوتا ہے	A. توازن B. تسلسل C. فوکیت D. تنسلس

